

Psa

Chapter 86

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	תְּפִלָּה	לְדָוִד	הַטְּהַח- چھکا	יְהוָה	יְהוָה	אֶזְנוֹךְ	עֲנִי	כִּי-	עָנִי	וְאֶבְיוֹן	אֲנִי:
	دعا	ل-داؤد	چھکا	یہوواہ	اپنا-کان	جواب-دے-مجھے	کیونکہ	غریب	اور-مسکین	میں	
	H8605	H1732	H5186	H3068	H0241			H6041	H0034	H0589	

ہے۔ محتاج اور زدہ مصیبت میں کیونکہ سن، میری کر جھکا کان اپنا رب، اے دعا۔ کی داؤد

2	שְׁמֵרָה	נַפְשִׁי	כִּי-	חֲסִיד	אֲנִי	הוֹשִׁעַ	עֲבָדְךָ	אֲתָה	אֱלֹהֵי	הַבּוֹטָח
	محفوظ-رکھ	میری-جان	کیونکہ	مقدس	میں	بچا	اپنے-بندے	تُو	میرے-خدا	وہ-جو-بھروسہ-کرتا-ہے
	H8104	H5315		H2623	H0589	H3467	H5650		H0430	H0982

اَللّٰہِ:

تجھ-پر

[H0413](#)

ہے! خدا میرا ہی تُو ہے۔ رکھتا بھروسا پر تجھ جو بچا کو خادم اپنے ہوں۔ دار ایمان میں کیونکہ رکھ، محفوظ کو جان میری

3	חַנּוּן	אֲדֹנָי	כִּי	אֱלֹהִים	אֶקְרָא	כָּל-	הַיּוֹם:
	رحم-کر-مجھ-پر	خداوند	کیونکہ	تجھے	پکارتا-ہوں	سارا	دن
	H0136			H0413	H7121	H3605	H3117

ہوں۔ پکارتا تجھے میں بھر دن کیونکہ کر، مہربانی پر مجھ رب، اے

4	שִׂמְחָה	נֶפֶשׁ	עֲבָדְךָ	כִּי	אֱלֹהִים	אֲדֹנָי	נַפְשִׁי	אֲשָׂא:
	خوش-کر	جان	اپنے-بندے-کی	کیونکہ	تیری-طرف	خداوند	میری-جان	اُٹھاتا-ہوں
	H8055	H5315	H5650		H0413	H0136	H5375	

ہوں۔ آرزومند تیرا میں کیونکہ کر، خوش کو جان کی خادم اپنے

5	כִּי-	אֲתָה	אֲדֹנָי	טוֹב	וְסֵלַח	וְרַב-	חֶסֶד	לְכָל-	קְרָאִיךָ:
	کیونکہ	تُو	خداوند	نیک	اور-معاف-کرنے-والا	اور-بہت	رحمت	ل-سب	پکارنے-والوں-تجھے
		H0136			H5546			H3605	H7121

ہے۔ کرتا شفقت بڑی تُو پر اُن ہیں پکارتے تجھے بھی جو ہے۔ تیار لئے کے کرنے معاف تُو ہے، بہلا رب اے تُو کیونکہ

6	הַאֲזִינָה	יְהוָה	תְּפִלָּתי	וְהִקְשִׁיבָה	בְּקוֹל	תְּחַנּוּנֹתי:
	کان-لگا	یہوواہ	میری-دعا	اور-توجہ-کر	پ-آواز	میری-مٹتوں-کی
	H0238	H3068	H8605	H7181		H8469

کر۔ توجہ پر التجاؤں میری سن، دعا میری رب، اے

7	בְּיָדֶיךָ	צָרָתי	אֶקְרָא	כִּי	תַעֲנֵנִי:
	میری-مصیبت-کے	پکاروں-گا-تجھے	کیونکہ	جواب-دے-گا-تُو-مجھے	
	H3117		H7121		

ہے۔ سنتا میری تُو کیونکہ ہوں، پکارتا تجھے میں دن کے مصیبت

8	אֵין-	כְּמוֹךָ	אֶבְאֵלְהֵם	אֲדֹנָי	וְאֵין	כְּמַעֲשֵׂיךָ:
	نہیں	جیسے-تُو	پ-خداؤں	خداوند	اور-نہیں	جیسے-تیرے-کام
	H0369	H3644	H0430	H0136	H0369	H4639

سکتا۔ کر نہیں اور کوئی ہے کرتا تُو کچھ جو ہے۔ نہیں مانند تیری کوئی سے میں معبودوں رب، اے

9	כָּל- سب	אֲנִי قومیں	אֲשֶׁר جو	עָשִׂיתָ بنایا-ٹوئے	וּבְאוּ آئیں-گی	וַיִּשְׁתַּחֲוּוּ اور-سجدہ-کریں-گی	לְפָנֶיךָ ل-سامنے-تیرے	אֲדֹנָי خداوند	וַיִּכְבְּדוּ اور-جلال-دیں-گی
	H3605			H0935	H7812	H6440	H0136	H3513	

לְשִׁמּוֹךְ:

ل-تیرے-نام
H8034

گی۔ دین جلال کو نام تیرے اور گی کریں سجدہ حضور تیرے کر آ وہ بنائیں نے ٹو قومیں بھی جتنی رب، اے

10	כִּי- کیونکہ	גָּדוֹל عظیم	אֲתָה ٹو	וַעֲשֵׂה اور-کرنے-والا	נִפְלְאוֹת عجائب	אֵתָה ٹو	אֱלֹהִים خدا	לְבָדְךָ: اکیلا-ٹو
					H6381		H0430	H0905

بے۔خدا ہی ٹو ہے۔ کرتا معجزے اور بے عظیم ہی ٹو کیونکہ

11	הוֹרְנִי سکھا-مجھے	וְהוֹדָה بہوواہ	דְּרָכֶךָ اپنی-راہ	אֶתְלֶךָ چلوں-گا	בְּאִמְתָּךְ ب-تیری-سچائی	יִחַד یکجا-کر	לְבָבִי میرا-دل	לְיִרְאָה ل-ڈرنے	שִׁמּוֹךְ: تیرے-نام-سے
	H3068	H1870	H1980	H0571	H3161	H3824	H3372	H8034	

مانوں۔خوف تیرا سے دل پورے میں کہ دے بخش چلوں۔ میں وفاداری تیری تاکہ سکھا راہ اپنی مجھے رب، اے

12	וְאוֹדֶךָ شکر-کروں-گا-تیرا	אֲדֹנָי خداوند	אֱלֹהֵי میرے-خدا	בְּכָל- ب-سارے	לְבָבִי میرے-دل	וַאֲכַבְדֶּךָ اور-جلال-دوں-گا	שִׁמּוֹךְ تیرے-نام	לְעוֹלָם: ل-بمیشہ
	H3034	H0136	H0430	H3605	H3824	H3513	H8034	H5769

گا۔کروں تعظیم کی نام تیرے تک ہمیشہ گا، کروں شکر تیرا سے دل پورے میں خدا، میرے رب اے

13	כִּי- کیونکہ	חַסְדֶּךָ تیری-رحمت	גָּדוֹל عظیم	עָלַי علیک	וְהַצִּילָהּ اور-بچایا-ٹوئے	נַפְשִׁי میری-جان	מִשְׁאוּל من-پاتال	תַּחֲתֶיךָ: نچلے
					H5337	H5315	H7585	H8482

بے۔چھڑایا سے گہرائیوں کی پاتال کو جان میری نے ٹو ہے، عظیم شفقت پر مجھ تیری کیونکہ

14	אֱלֹהִים خدا	זְדִים مغرور	קָמוּ- اُٹھ-کھڑے-ہیں	עָלַי علیک	וְעַרְתָּ اور-مجلس	עֵרִיצִים ظالموں-کی	בְּקִשׁוֹ ڈھونڈتی-ہے	נַפְשִׁי میری-جان	וְלֹא اور-نہیں	שִׁמּוֹךְ رکھتے-تجھے
	H0430	H2086			H5712	H6184	H1245	H5315	H3808	

לְנִדְדָם:

ل-سامنے-ان-کے
H5048

کرتے۔نہیں لحاظ تیرا لوگ یہ ہے۔ درے کے لینے جان میری جتھا کا ظالموں ہیں، ہوئے کھڑے اُٹھ خلاف میرے مغرور اللہ، اے

15	וְאֵתָה اور-ٹو	אֲדֹנָי خداوند	אֵל- ایل	רַחֲמוּ- رحمدل	וְחַנּוּן اور-مہربان	אֶרֶךְ دیر	אֲפִים غضب	וְרַב- اور-بہت	חַסֵּד رحمت	וְאֵמֶת: اور-سچائی
		H0136	H0410	H7349	H2587	H0750	H0639			H0571

بے۔بہریور سے وفا اور شفقت تحمل، ٹو ہے۔ خدا مہربان اور رحیم رب، اے ٹو، لیکن

16	פָּנָה متوجہ-ہو	אֵלַי میری-طرف	וְהִנְנִי اور-رحم-کر-مجھ-پر	תְּנֶה- دے	עֲזָרָה اپنی-قوت	לְעַבְדֶּךָ ل-اپنے-بندے	יְהוֹשִׁיעָה اور-بچا	לְבָנִי ل-بیٹے	אֶמְתָּךְ: اپنی-لونڈی-کے
	H6437	H0413		H5414	H5797	H5650	H3467		H0519

بچا۔کو بیٹے کے خادمہ اپنی کر، عطا قوت اپنی کو خادم اپنے کر! مہربانی پر مجھ فرما، رجوع طرف میری

17	עֲשֵׂה-	עָמִי	אוֹת	לְטוֹבָה	וַיֵּרֵא	שָׂנְאִי	וַיִּבְשׂוּ	כִּי-	אֲתָה	יְהִיָּה
	کر	میرے-ساتھ	نشانی	ل-بھلائی	اور-دیکھیں	میرے-دشمن	اور-شرمندہ-ہوں	کیونکہ	تُو	یہوواہ
			H0226		H7200	H8130	H0954			H3068
		עֲזָרְתִּי	וְנַחֲמָתִי:							
		مدد-کی-میری-تُو-نے	اور-تسلی-دی-مجھے							
		H5826	H5162							

بے-دی تسلی مجھے کے کر مدد میری نے رب تُو کہ جائیں ہو شرمندہ کر دیکھ یہ والے کرنے نفرت سے مجھ دکھا۔ نشان کوئی کا مہربانی اپنی مجھے